

کافر بینک سے قرض لینا کیسا؟

مجیب: ابو حفص مولانا محمد عرفان عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: WAT-1857

تاریخ اجراء: 14 محرم الحرام 1445ھ / 02 اگست 2023ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

کیا کافروں کے کسی بینک سے (جس میں کسی مسلمان کا شئیر نہ ہو) لون یعنی قرض لیا جاسکتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

بینکوں سے ملنے والا قرض، چونکہ سودی قرض ہوتا ہے اور سودی قرض لینا، ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ مسلم بینکوں سے ہو یا خالص کفار کی بینکوں سے۔ احادیث مبارکہ میں سود دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ لہذا خالص کفار کے بینکوں سے بھی سودی قرض لینا جائز نہیں۔

صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے: ”عن جابر رضی اللہ عنہ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال هم سواء“ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب (گناہ میں) برابر ہے۔ (صحیح مسلم، باب لعن اکل الربا و موكله، صفحہ 671، حدیث: 4093، موسسة الرسالة، بیروت)

سودی قرض لینا، ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فتاویٰ رضویہ میں جب سود پر قرض لینے کے متعلق سوال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”سود جس طرح لینا حرام ہے دینا بھی حرام ہے“۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 17، صفحہ 298، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

کافر کو سود دینے کے متعلق، امام اہلسنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، فتاویٰ رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”سود دینا اگرچہ کافر کو ہو قطعاً حرام و استحقاق نارہے“۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 17، صفحہ 335، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ فیض الرسول میں ارشاد فرماتے ہیں: ”بینک سے قرض لے کر اسے زائد رقم دینا ممنوع ہے اگرچہ وہ بینک خالص کافروں کا ہو۔“ (فتاویٰ فیض الرسول، جلد 2، صفحہ 344، اکبریک سیلرز، لاہور)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net